



III nivå 5


ଉ urdu / bokmål




Samrina Sana

ቍ Wiehan de Jager

ለ Lesliey Koyi



Magozwe



Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midt av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrettet av: Samrina Sana (ur), Espen Stranger-
Ilustrert av: Wiehan de Jager
Skrevet av: Lesliey Koyi
Johannesen (nb)

← „j“ / Magozwe

barnebøker.no

Barnebøker for Norge



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>

Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



نیروبی کے مصروف شہر میں گھر کی دلکھ بحال سے بہت دور ایسے لڑکوں کی ایک ٹولی رہتی تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ وہ ہر آنے والے دن کو ایسے ہی گزار دیتے جیسے وہ گزرتا۔ ایک صحیح علمدی سڑک پر سو کر اٹھنے کے بعد لڑکے اپنے بستر لپٹر ہے تھے۔ سردی کو بھا نے کے لیے، انہوں نے کوڑے کی مدد سے آگ جلانی ہوئی تھی۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے سب سے چھوٹا مگزوے تھا۔

...

I den travle byen Nairobi, langt fra det trygge livet hjemme, bodde det en gjeng hjemløse gutter. De tok hver dag akkurat som den kom. En morgen pakket guttene sammen mattene sine etter at de hadde sovet på det kalde fortauet. For å fordrive kulden lagde de et bål av søppel. En av guttene i gjengen var Magozwe. Han var den yngste.



مگزوے سبز پخت والا گھر کے باجیچے میں یہا ایک کہانی کی کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ اس سے سکول کی طرف سے ملی تھی۔ ہمامس اُس کے پاس آ کر یہا کہانی کس بارے میں ہے؟ ہمامس نے پوچھا؟ یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو اسٹاد بینا چاہتا تھا۔ مگزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کے کا نام کیا ہے؟ ہمامس نے پوچھا؟ اُس کا نام مگزوے ہے، اُس نے مسکرا تے ہو آئے کہا۔

...

Magozwe satt på tunet ved huset med det grønne taket og leste en barnebok fra skolen. Thomas kom og satte seg ved siden av ham. "Hva handler fortellingen om?" spurte Thomas. "Den handler om en gutt som blir lærer", svarte Magozwe. "Hva heter gutten?" spurte Thomas. "Han heter Magozwe", svarte Magozwe med et smil.



Da Magozwes forældre døde, var
dro for å bo med onkelen sin. I
ikke om barnet. Han ga ikke Ma-
tvang gutten til å jobbe hardt.

•

وَلِيَكُمْ بِهِ حِلْمٌ وَلِيَكُمْ بِهِ حِلْمٌ
وَلِيَكُمْ بِهِ حِلْمٌ وَلِيَكُمْ بِهِ حِلْمٌ



Magozwe begynte på skolen, og det var vanskelig. Han hadde mye å ta igjen. Av og til ville han gi opp. Men han tenkte på piloten og fotballspilleren i barnebokene. Som dem ga han ikke opp.

1



اگر مگوزے شکایت کرتا یا سوال اٹھاتا تو اُس کے پچھا اُس کو مارتا۔ جب مگوزے نے سکول جانے کے لیے پچھا تو اُس کے پچھا نے اُسے مارا اور کہا تم سیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تین سال یہ سب ہنسنے کے بعد مگوزے اپنے پچھا کے گھر سے بھاگ گیا۔ اُس نے گلی پر رہنا شروع کر دیا۔

...

Hvis Magozwe klagde eller stilte spørsmål, slo onkelen hans ham. Når Magozwe spurte om han kunne gå på skolen, slo onkelen hans ham og sa: "Du er for dum til å lære noe som helst." Etter tre år med denne behandlingen rømte Magozwe fra onkelen sin. Han begynte å bo på gata.



اور اس طرح مگوزے ایک نہے کھرے میں داخل ہوا جس کی چھت سبز تھی۔ وہاں اُس نے دو اور لڑکوں کے ساتھ کھرہ بانٹا۔ اُس گھر میں کل دس بچے رہتے ہے۔ آنٹی سیسی اور ان کے خاوند، تین کھتے، ایک بلی اور ایک بوڑھی بکری کے سہیت۔

...

Dermed flyttet Magozwe inn i et rom i et hus med grønt tak. Han delte rommet med to andre gutter. Til sammen var det ti barn som bodde i det huset. Sammen med tante Cissy og mannen hennes, tre hunder, en katt og en gammel geit.

Livet på gata var vanskelig, og de fleste guttene sløt hver til resirkulering. Livet var enda vanskeligere på grunn av pengene de fikk fra å tilgje og fra å selge plast og annet som kunne hjelpe dem. Gjengen var avhengig av de få andre ganger ble de slått. Når de ble syke, var det ingen dag bare for å finne mat. Noen ganger ble de arrestert, men ikke for å stje.

...

-*لَا يَنْهَا رِبُّهُ عَنْ شَيْءٍ وَمَنْ يُرِكْ*
لَا يَرْجِعُ عَنْ بَوْزِرٍ لِمَنْ يُرِكْ
لِمَنْ يُرِكْ لِمَنْ يُرِكْ لِمَنْ يُرِكْ لِمَنْ يُرِكْ



Han snakket om det han var redd for med Thomas. Med tiden forsikret mannen gutten om at livet kunne bli bedre på det nye stedet.

...

-*لَا يَنْهَا رِبُّهُ عَنْ شَيْءٍ وَمَنْ يُرِكْ*
لَا يَرْجِعُ عَنْ بَوْزِرٍ لِمَنْ يُرِكْ



kontroll over deler av byen.



مگزوے نے اس نئی جگہ اور سکول جانے کے بارے میں سوچا، کیا ہو
اگر اس کے چاکی کہی بات تھیک نکلی اور وہ واقعی پڑھ لکھنے سکا؟ کیا ہوگا اگر
اس نئی جگہ پر اس سے مارپڑی؟ وہ خوف دہا کہ شاید گلی میں رہنا ہی بہتر ہے
اس نے سوچا۔

...

Magozwe tenkte på dette nye stedet og på å gå på skolen. Hva om onkelen hans hadde rett og han var for dum til å lære noe? Hva om de slo ham på dette nye stedet? Han var redd. "Kanskje det er bedre å bo på gata", tenkte han.

skulle læse ordene.

ut bokা og sā på bildeনe. Han visste ikke hvor dan han
den og la den i sekken sin. Hver påfølgende dag tok han
han en gammel fillete barnebok. Han fikket møkka fra
En dag mens Magozwe lette i noen soppelbøtter, fant

...

—**لَمْ يَرَى إِنْجِيلَنَا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ**
فَلَمْ يَرَى إِنْجِيلَنَا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ
لَمْ يَرَى إِنْجِيلَنَا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ
لَمْ يَرَى إِنْجِيلَنَا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ



skole.



تصاویر ایک ایسے لڑکے کی کہانی پیش کرتیں جو بڑا ہو کر کپتان بننا چاہتا تھا۔
مگزوے صرف اس کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے وہی
خیال کر لیتا کہ کہانی میں موجود لڑکا وہ خود ہے۔

...

Bildene fortalte fortellingen om en gutt som vokste opp til å bli pilot. Magozwe pleide å dagdrømme om å bli pilot. Noen ganger innbilte han seg at han var gutten i fortellingen.



مگزوے کی دسویں سالگرہ پر ٹھامس نے اس کو ایک نئی کہانی کی کتاب
تحفے میں دی۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے لڑکے کے بارے میں تھی۔ جو
کہ بڑا ہو کر ایک مشہور فلبیا لر بننا چاہتا تھا۔ ٹھامس نے مگزوے کو وہ کہانی کی
بارپڑھ کر سنائی۔ حق کہ ایک دن اس نے کہا یہ رے خیال سے تمہیں
سکول جانا چاہیے اور پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
ٹھامس نے اس سے تفصیل سے بتایا کہ وہ ایک جگہ کے بارے میں جانتا
ہے جہاں جچے رہ سکتے ہیں اور سکول جا سکتے ہیں۔

...

Omkring Magozwes tiende fødselsdag ga Thomas ham en ny barnebok. Det var fortellingen om en landsbygutt som vokste opp til å bli en berømt fotballspiller. Thomas leste den fortellingen for Magozwe mange ganger, helt til han en dag sa: "Jeg synes det er på tide at du går på skolen og lærer å lese. Hva synes du?" Thomas forklarte at han visste om et sted hvor barn kunne bo og gå på

Det var kaldt og Magozwe stod langs veien og tigget. En mann gikk bort til ham. „Hei, jeg heter Thomas. Jeg bor i nærheten, på et sted der du kan få deg noe å spise“, sa han og pekte på et gjult hus med blått tak. „Jeg håper du drar dit for å få deg litt mat?“ spurte han. Magozwe så på ham, og deretter på huset. „Kanskje“, sa han og gikk.

...

-*Åh, Thomas, Thomas! Kom inn - vi har ikke mat!*
Thomas! Kom inn - vi har ikke mat!



Da de møttes, begynte Magozwe å fortelle sin egen historie til Thomas. Det var historien om onkelen hans og hvorfor han romte hjemmefra. Thomas snakket ikke med men han lyttet alltid oppmerksomt. Noen ganger mye, og han sa ikke til Magozwe hva han skulle gjøre, snakket de sammen mens de spiste i det gule huset med det blå taket.

...

-*Åh, Thomas! Kom inn - vi har ikke mat!*
Thomas! Kom inn - vi har ikke mat!





کچھ مہینوں بعد، گھر کے بغیر لڑکوں نے روز بھامس کو اپنے ارڈر گرد دیکھنا شروع کیا۔ اسے لوگوں سے بات کرنا پسند تھا۔ خاص طور پر ان لوگوں سے جو گلیوں میں رہتے۔ بھامس ان سے ان کی زندگی کی کہانیاں سنایا۔ وہ بہت سخیندہ اور صبریں رہتا اور کچھی ان سے تعلق کلامی اور بد تحریزی نہ کرتا۔ کچھ لڑکے اس پر لے اور نیلے گھر میں دوپہر کو کھانا لینے جاتے۔

...

I månedene som fulgte ble de hjemløse guttene vant til å se Thomas. Han likte å snakke med folk, spesielt de som bodde på gata. Thomas hørte på fortellinger om livene til folk. Han var seriøs og tålmodig, aldri frekk eller respektløs. Noen av guttene begynte å dra til det gule og blå huset for å få mat midt på dagen.

مگوزوے سڑک پر یہا کتاب میں اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب بھامس آکر اس کے پاس یہا۔ یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ بھامس نے پوچھا۔ یہ ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو کہ کپتان بنا مگوزوے نے جواب دیا۔ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ بھامس نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا مگوزوے نے چپکے سے جواب دیا۔

...

Magozwe satt på fortauet og kikket i bildeboka da Thomas kom og satte seg ved siden av ham. "Hva handler fortellingen om?" spurte Thomas. "Den handler om en gutt som blir pilot", svarte Magozwe. "Hva heter gutten?" spurte Thomas. "Jeg vet ikke, jeg kan ikke lese", svarte Magozwe lavt.